



متاثرہ افراد کے رابطوں کا سراغ لگانا ہمیں کاروبار دوبارہ کھولنے اور محفوظ رہنے میں مدد دیتا ہے

متاثرہ افراد کے رابطوں کا سراغ لگانا کیا ہے؟

متاثرہ افراد کے رابطوں کا سراغ لگانا ایک طریقہ کار ہے جس کے تحت صحت عامہ کے اہلکار ان لوگوں کا سراغ لگاتے ہیں جو COVID-19 کے تصدیق شدہ مریضوں کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں اور انہیں پنا ٹیسٹ کرانے اور خود کو الگ کرنے کا کہتے ہیں۔

اونٹاریو کو بحفاظت دوبارہ کھولنے اور وائرس کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کے لئے رابطے کا سراغ لگانے کے ذریعے COVID-19 کے مریضوں کا فوری طور پر سراغ لگانا اور انہیں الگ کرنا ضروری ہے۔

ایک سادہ لیکن اہم طریقہ جس کے ذریعے آپ مدد کر سکتے ہیں وہ رابطے کا سراغ لگانے میں مدد دینا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رابطے کا سراغ لگانے کی ایپ کا استعمال کرنا، اور ہر اس شخص کا سراغ رکھنا ہے جس سے آپ سماجی طور پر یا پھر عوامی مقام پر جیسے اسٹور یا گلی میں قریبی رابطے میں آتے ہیں۔

رابطہ کا سراغ لگانے والی ایپ کو استعمال کرنا آسان ہے

COVID انتباہ، اونٹاریو کی موبائل ایپ ان لوگوں کے بارے میں اطلاع دینے کا ایک فوری، محفوظ، رازداری محفوظ کردہ طریقہ فراہم کرتی ہے جن کا COVID-19 سے سامنا ہوا ہے۔

بلوٹوتھ کا استعمال کرتے ہوئے، ایپ گمنام، تصادفی طور پر تیار کردہ کوڈز کو دوسرے قریبی ایپ صارفین کے ساتھ شیئر کرتی ہے۔

اگر آپ کا COVID-19 کا ٹیسٹ مثبت آ جاتا ہے، تو آپ گمنام طور پر دوسروں کو مطلع کر سکتے ہیں جو گزشتہ 14 دنوں میں آپ کے قریب رہے ہیں۔

اگر آپ کا کسی دوسرے ایپ صارف کے ذریعے پچھلے 14 دنوں میں COVID-19 سے سامنا ہوا ہے، تو آپ کو ایک گمنام اطلاع موصول ہوگی۔

ایپ:

• ذاتی ڈیٹا یا ذاتی صحت کی معلومات اکٹھی نہیں کرتی ہے

• جی پی ایس محل وقوع ڈیٹا اکٹھا یا اس کا سراغ نہیں لگاتی ہے

• 14 دنوں کے بعد خودکار طور پر تمام گمنام کردہ ڈیٹا کو تلف کر دیتی ہے

• اینڈرائیڈ ڈیوائسز یا آئی فونز کے ذریعے استعمال کی جا سکتی ہے

• اونٹاریو سے باہر اسی سے ملتی جلتی ایپس کے ساتھ کام کرتی ہے



کیا ایپ استعمال نہیں کرتے یا نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کے رابطوں کا سراغ لگانے کے کم تکنیکی طریقے موجود ہیں

آپ جہاں جاتے ہیں وہاں کی تصاویر لے کر یا الیکٹرانک طور پر یا کاغذ پر یادداشتیں لکھ کر، جیسے اوما (OMA) کی پاکٹ ڈائری، اپنے رابطوں کا سراغ رکھ سکتے ہیں۔

• لکھیں کہ آپ کب اور کہاں گئے تھے، اور آپ کس سے ملے تھے۔

• ان میں سے کسی بھی افراد کے ناموں کی فہرست بنائیں جن کے ساتھ آپ 15 منٹ یا زائد وقت تک دو میٹر (چھ فٹ) سے کم کے فاصلے پر رہے تھے۔

• اگر آپ کو اس شخص کا نام معلوم نہیں تو آپ اپنے پاس موجود معلومات کو لکھ لیں، جیسا کہ ZZ تاریخ کو بوقت ۷۷ بجے XX اسٹور کے پیداوار شعبہ میں ایک کارکن کے ساتھ میری طویل گفتگو ہوئی تھی" ■